

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس

جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

27 نومبر 2020

پریس ریلیز

**جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ جغرافیہ کی جانب سے بین الاقوامی (آن لائن) کانفرنس کا انعقاد**

شعبہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 25 26 نومبر 2020 کو یو جی سی-ڈی آر ایس -1 پروگرام کے زیر اہتمام ایک بین الاقوامی (آن لائن) کانفرنس کا انعقاد کیا۔

تکنیکی سیشنوں پر مشتمل اس دو روزہ کانفرنس کے دوران ، ریاستہائے متحدہ امریکہ ، جرمنی ، جاپان ، چین ، تھائی لینڈ ، بنگلہ دیش وغیرہ سمیت ہندوستان اور بیرون ملک کے مختلف حصوں سے تقریباً 140 سے زیادہ تحقیقی مقالے پیش کیے گئے۔

پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ افتتاحی سیشن کی مہمان خصوصی تھیں۔ کلیدی خطبہ مہمان ذی وقار پروفیسر آر بی سنگھ ، آئی جی یو سکرپٹری جنرل اور جغرافیہ کے پروفیسر (ریٹائرڈ) ، دہلی اسکول آف اکنامکس ، دہلی یونیورسٹی نے پیش کیا۔ مہمان اعزاز ی ، ڈاکٹر ایس ڈی اتری نے بھی حاضرین سے خطاب کیا۔

پروفیسر اختر نے اپنے خطاب کے دوران تمام نمائندوں کا پرتپاک استقبال کیا کانفرنس کے مرکزی خیال کو سراہا۔

انہوں نے ہندوستان کی قومی تعلیمی پالیسی (2020) کے تناظر میں شعبہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ جغرافیہ اور اس سے متعلق موضوعات پر مختصر مدتی کورس ، ورکشاپ اور نئے نصاب کا اہتمام کرے۔

پروفیسر سنگھ نے ایس ڈی جی فریم ورک (2015 20152030) ، آفات کے خطرے سے نمٹنے کے لئے سنڈائی فریم ورک (2015-202030) اور پیرس معاہدہ (2016) کے خطوط پر لچکدار اور جامع معاشرے کی تشکیل میں غربت ، بے روزگاری اور علاقائی عدم مساوات کے دائمی بوجھ سے نمٹنے پر کام کرے

ڈاکٹر اتری نے عالمی معاشی فورم (2020) کی نشاندہی کرتے ہوئے متناسب خطرے کی باقاعدہ نگرانی اور جائزہ لینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔

پروفیسر اشتیاق ، شعبہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور کانفرنس کے کنوینر نے تمام مندوبین کا خیر مقدم کیا اور وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کی متحرک قیادت میں حالیہ برسوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور شعبہ جغرافیہ کی نمایاں کامیابی کو اجاگر کیا۔

پروفیسر عتیق الرحمن ، بین الاقوامی کانفرنس کے آرگنائزنگ سکرپٹری اور یو جی سی-ڈی آر ایس -1 کے کوآرڈینیٹر ، شعبہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اس کانفرنس کے موضوعات اور ذیلی موضوعات کا مختصر تعارف کرایا۔

پروفیسر مریم طاہر ، سربراہ ، شعبہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے پروگرام کے تمام مندوبین کا شکریہ ادا کیا۔

ڈاکٹر ارونا پارچہ ، محکمہ جغرافیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے افتتاحی سیشن کو مربوط کیا۔

احمد عظیم

پی آر او-میڈیا کوآرڈینیٹر